



## آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ : پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں شکست دے دی

- بہترین بیٹنگ کرنے پر جویریہ خان پلیئر آف دی میچ قرار
- ڈیانا بیگ کی شاندار باؤلنگ

کراچی، 26 فروری 2020ء:

پاکستان نے آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ 2020 کافاتحانہ آغاز کیا ہے۔ آسٹریلیا میں جاری میگا ایونٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔

پاکستان نے 125 رنز کا مطلوبہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ کینبرا میں کھیلے گئے میچ میں تجربہ کار بیٹر جویریہ خان اور فاسٹ باؤلر ڈیانا بیگ کی شاندار کارکردگی نے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اووز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 124 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے شیمائن کیمبل اور اسٹیفنی ٹیلر 43،43 رنز بنا کر نمایاں بیٹرز رہیں۔ دونوں بیٹرز کی اننگز میں 2،2 چوکے اور 2،2 چھکے شامل تھے۔ لی آن کربی 16 رنز بنا کر اوٹ ہوئیں۔ تینوں بیٹرز کے علاوہ ویسٹ انڈیز کی کوئی بلے باز بھی ڈبل فگر میں داخل نہ ہوسکیں۔

فاسٹ باؤلر ڈیانا بیگ نے ابتدائی اوورز میں عمدہ باؤلنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز ویمنز کی بیٹنگ لائن اپ کو دباؤ کا شکار کیا۔ انہوں نے 4 اوورز میں 19 رنز کے عوض 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ڈیانا بیگ کے علاوہ ندا ڈار اور ایمن انور نے بھی 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی اوپنرز نے اننگز کا پراعتماد آغاز کیا۔ جویریہ خان اور منیبہ علی پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے ٹیم کو 58 رنز کا مضبوط آغاز فراہم کر کے میچ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم کر دی۔ جویریہ خان 35 اور منیبہ

علی 25 رنز بناکر آؤٹ ہوئیں، جس کے بعد کپتان بسمہ معروف نے ندا ڈار کے ہمراہ 40 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کر کے ٹیم کو فتح دلادی۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم نے مطلوبہ ہدف 16 گیندیں قبل 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بسمہ معروف 39 اور ندا ڈار 18 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہیں۔

ویسٹ انڈیز کی آفی فلیچر اور اسٹیفنی ٹیلر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

میچ میں مثبت بیٹنگ کرنے پر جویریہ خان کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔

قومی خواتین کرکٹ ایونٹ میں اپنا اگلا میچ 28 فروری کو اسی میدان پر انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔

**اسکواڈ:**

بسمہ معروف (کپتان)، ایمن انور، عالیہ ریاض، انعم امین، عائشہ نسیم، ڈیانا بیگ، فاطمہ ثناء، ارم جاوید، جویریہ خان، منیبہ علی، ندا ڈار، عمیمہ سہیل، سعدیہ اقبال، سدرہ نواز (وکٹ کیپر) اور سیدہ عروب شاہ۔

**آفیشلز:**

سید اقبال امام (ہیڈ کوچ)، سلیم جعفر (ہاؤلنگ کوچ)، عامر اقبال (فیلڈنگ کوچ)، جمال حسین (اسٹریٹھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ)، ڈاکٹر رفعت اصغر گل (فزیو)، عائشہ جلیل (منیجر) اور زبیر احمد (اینالسٹ)۔

**شیڈول:**

28 فروری بروز جمعہ: پاکستان ویمنز بمقابلہ انگلینڈ ویمنز بمقام کینبرا  
یکم مارچ بروز اتوار: پاکستان ویمنز بمقابلہ جنوبی افریقہ ویمنز بمقام سڈنی  
3 مارچ بروز منگل: پاکستان ویمنز بمقابلہ تھائی لینڈ ویمنز بمقام سڈنی

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486  
W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)